



سوال

(381) ایک رات میں زیادہ سے زیادہ کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

رمضان یا غیر رمضان میں ایک رات میں زیادہ سے زیادہ کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے شیخ کے مطابق رمضان یا غیر رمضان میں گیارہ (۱۱) رکعات نوافل ادا کر سکتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل زیادہ سے زیادہ پندرہ رکعات ہے، اس میں رمضان یا غیر رمضان کی کوئی تخصیص نہیں۔ رہی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث: ((نَاكَانَ يَزِيدُنِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكَعَاتٍ))¹ ”رمضان ہوتا یا غیر رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔“ [تو اس میں انہوں نے افہتاجی دو رکعتوں اور وتر کے بعد والی دو رکعتوں کل چار رکعات کو شمار نہیں فرمایا جبکہ یہ چار رکعات دوسری احادیث سے ثابت ہیں اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ تو ان کے فرمان ((نَاكَانَ يَزِيدُنِي)) کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو افہتاجی رکعات اور وتر کے بعد والی دو رکعات نکال کر گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اسی حدیث میں رکعات کی تفصیل ((یصلی أربعاً... ثم یصلی أربعاً... ثم یوتر)) سے واضح ہے کیونکہ اس میں انہوں نے افہتاجی دو رکعات اور وتر کے بعد والی دو رکعات کو ذکر نہیں فرمایا۔

1 صحیح بخاری التہجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ۔ صحیح مسلم صلاۃ المسافرین باب صلاۃ اللیل وعد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل

جلد 02 ص 293

محدث فتویٰ